

درخواست فارم برائے قرض حسنہ APPLICATION FORM FOR QARZ-E-HASNA

(Attach photocopies of CNIC of applicant, two guarantors & two witnesses)

(درخواست گزار، ضمانت دہندگان اور گواہوں کے قومی شناختی کارڈز کی نقول منسلک کریں۔)

1) Personal Details: ذاتی تفصیلات

Name of the applicant: درخواست گزار کا نام _____

Father/Husband Name: والد / شوہر کا نام _____

CNIC No: قومی شناختی کارڈ نمبر: _____ Date of Birth: تاریخ پیدائش: _____

Gender: جنس: Male مرد ☐ Female عورت ☐ Marital Status: ازدواجی حیثیت: Single کنوارہ ☐ Married شادہ شدہ ☐ Divorcee مطلقہ ☐ Widow بیوہ ☐

Present Address: حالیہ پتہ: _____

Province: صوبہ: _____ Division: ڈویژن: _____ District: ضلع: _____ Tehsil: تحصیل: _____ Union Council: یونین کونسل: _____ Village: گاؤں: _____

Permanent Address: مستقل پتہ: _____

Cell Phone: موبائل فون: _____ Education: تعلیم: _____

No of school going children, if any: اسکول جانے والے بچے، اگر ہیں: _____

Languages you can Speak: زبانیں جو بول سکتے ہیں: _____

Languages you can Read: زبانیں جو پڑھ سکتے ہیں: _____

Languages you can Write: زبانیں جو لکھ سکتے ہیں: _____

Particulars of the Family Dependents: زیر کفالت افراد کے کوائف

S.No: شمار	Name: نام	DOB: تاریخ پیدائش	Marital Status: ازدواجی حیثیت	Relationship: رشتہ	CNIC No: قومی شناختی کارڈ نمبر	Monthly Income: ماہانہ آمدنی
Total: کل						

2) Business Details: کاروبار کی تفصیلات ☐ Existing موجودہ ☐ New نیا

Nature of Business: کاروبار کی نوعیت: _____ Experience: تجربہ: _____ Vocational Training: پیشہ ورانہ تربیت: _____

Initial Capital: ابتدائی سرمایہ (رقم) Rs. _____ Source of capital: آمدنی کا ذریعہ: _____ (Organization Name) (ادارہ کا نام)

3) Monthly Income: ماہانہ آمدنی

Self income from business: کاروبار سے ذاتی آمدنی Rs. _____ Self income other than business: کاروبار کے علاوہ ذاتی آمدنی Rs. _____

Total of other family income: دیگر اہل خانہ کی کل آمدنی Rs. _____ Total monthly income: کل ماہانہ آمدنی Rs. _____

Liability/Outstanding: ذمہ داری / بقایا جات Rs. _____ From Whom: کس سے _____

4) Monthly Expenditure: ماہانہ اخراجات

House rent: مکان کا کرایہ Rs. _____ Day to day expenses: روزمرہ اخراجات Rs. _____

Utilities: سہولیات Rs. _____ Educational expenses: تعلیمی اخراجات Rs. _____

Provision/Grocery: سودا سلف Rs. _____ Miscellaneous expenses: متفرق اخراجات Rs. _____

Liability Installment: بقایا جات قسط Rs. _____

Total monthly expenses: کل ماہانہ اخراجات Rs. _____

SAVING/SHORTFALL: بچت / کمی _____ (Income minus expenditure) (آمدنی کے بعد آمدنی)

5) Qarz-e-Hasna Required: درکار قرض حسنہ

Amount: رقم Rs. _____ Capacity to pay monthly installment: ماہانہ قسط کی صلاحیت Rs. _____

Purpose: مقصد _____

Please attach
Photograph

براہ کرم فوٹو چسپاں کریں

We (Guarantor 1 & Guarantor 2) take financial responsibility for the applicant's timely installment payments, and in case of non-payment, we commit to clearing any outstanding obligations on his/her behalf.

ہم (پہلا ضمانتی، دوسرا ضمانتی) درخواست دہندگان کی بروقت قسط کی ادائیگی کی مالی ذمہ داری لیتے ہیں اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں، ہم اس کی طرف سے کسی بھی بقایا ذمہ داری کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

Name: نام _____ CNIC No: قومی شناختی کارڈ نمبر _____

Relationship with applicant: در خواست گزار سے رشتہ _____ Cell No: موبائل نمبر: _____ Signature: دستخط: _____

Name: نام _____ CNIC No: قومی شناختی کارڈ نمبر _____

Relationship with applicant: درخواست گزار سے رشتہ _____ Cell No: موبائل نمبر _____ Signature: دستخط _____

First Witness: پہلا گواہ

Name: نام _____ CNIC No: قومی شناختی کارڈ نمبر _____

Relationship with applicant: درخواست گزار سے رشتہ _____ Cell No: موبائل نمبر _____ Signature: دستخط _____

Second Witness: دوسرا گواہ

Name: نام _____ CNIC No: قومی شناختی کارڈ نمبر _____

Relationship with applicant: درخواست گزار سے رشتہ _____ Cell No: موبائل نمبر _____ Signature: دستخط _____

درخواست گزار کا مترادف نام

- 1) I undertake that, I will use the Qarz-e-Hasna for the purpose it is applied for. میں اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے قرض حسنہ جس مقصد کیلئے حاصل کیا ہے، اسی مد میں استعمال کروں گا/گی۔
- 2) I further undertake that Monthly installment with regularly be paid on due dates. میں اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں مقررہ تاریخوں پر باقاعدہ قسط کی ادائیگی کروں گا/گی۔
- 3) If I fail to pay Monthly installment on due dates. Then I will pay the set surcharge. اگر میں مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کر سکا/سکی تو میں قسط کے ساتھ مقرر کردہ جرمانہ بھی ادا کروں گا/گی۔
- 4) All the information given above is true to the best of my knowledge and belief. درج بالا دی گئی تمام معلومات میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں۔

Date: تاريخ _____

Signature of the Applicant: دستخط درخواست گزار _____

برائے دفتری استعمال:- FOR OFFICE USE

AP's Recommendations: **نمائندہ کی سفارش**

Signature: دستخط _____

Date: تاريخ _____

Local Disbursement Committee Recommendations: مقامی قرضہ تقسیم کمیٹی کی سفارشات

Signatures of the Local Committee Members: دستخط اراکین مقامی کمیٹی 1. _____ 2. _____ 3. _____

Zonal Disbursement Committee Recommendations: زُومل قرضہ تقسیم کمیٹی کی سفارشات

QH amount: قرض کی رقم _____ Installment amount: قسط کی رقم _____ 1st installment due date: پہلی قسط کی واجب تاریخ _____

Signatures of Zonal Committee Members: دستخط اراکین زونل کمیٹی 1. _____ 2. _____

Date: تاريخ _____

Signature of the Zonal Head: زُوبل احمد کے دستخط

AF01 Form Guide

رہنمائی برائے فارم AF01

1. ذاتی معلومات

- Mention correct spelling in “Name of Applicant” & “Father/Husband Name” as per CNIC.
- Mention correct “CNIC No” in the form as per CNIC because Qarz-e-Hasna will disburse on it.
- Mention correct “Date of Birth” as per CNIC.
- Select the “Gender” & “Marital Status”.
- Write the “Present Address” applicant is currently residing in.
- Mention “Province, Division, District, Tehsil, Union Council, Village” of the “Present Address”.
- Write the “Permanent Address” where applicant’s family is residing in case applicant is in another city for work/job.
- Mention correct “Cell Phone”, if it’s incorrect or not in use then Qarz-e-Hasna will not be disbursed as verification call will be received on the number mentioned additionally all the notification for Qarz-e-Hasna disbursement will received via SMS on the same number.
- Write only the number in “No of School going Children”.
- Mention the languages the applicant can Speak, Read & Write.

“Particulars of Family Dependent”

- Mention only those persons who are depending on the applicant's income.
- Mention only unmarried person. In case of divorcee and widow write it in column of marital status.
- Do select employed or unemployed, In case of employed mention the “Monthly Income” of the dependent and in case of unemployed leave it blank.

2. Business Details

- Just tick “Existing” if the applicant is applying for Qarz-e-Hasna to expand his/her existing business or just tick “New” if the applicant is applying Qarz-e-Hasna for new business.
- Mention the “Nature of Business” for what type of business the applicant is applying for Qarz-e-Hasna.
- Mention the “Experience” for how long the applicant is doing such business or worked in such business.
- Mention “Vocational Training” the applicant have learned some skills for such business if yes then write the name of the institute or if no then leave it blank.
- Mention “Initial Capital” If the applicant has invested some amount to his/her business previously then write the amount invested.
- Mention “Source of Capital” the source from where the amount was invested, if the source is as loan from organization or company write the name of it and if the source is from applicant's personal resource write “Own”.

3. Monthly Income

- Mention “Self Income from Business” in case of existing business applicant should write the monthly income generating from it.
- Mention “Self income other than Business” if the applicant has other source of income write the monthly income generating from such source.
- Mention “Total other Family Income” write the amount mentioned in “Family Dependent” field “Monthly Income”.
- Sum up the “Total Monthly Income”

Liability/Outstanding

If the applicant has previously took loan for any purpose, if yes write the amount of the loan.

From Whom

Mention the name of organization or company from loan taken if the applicant took it from personal resource then write “Own”.

4. Monthly Expenditure

- Mention “House Rent” if the applicant is living on tenant basis then writes the amount of rent paying and if the applicant owns the house then leave it blank.
- Mention “Day-to-Day Expenses” the applicant’s daily expenditure like eggs, bread & milk etc. Write the amount after calculating the expense of per day then multiply it by 30.
- Mention “Utilities” the applicant’s expenditure of Water, Gas and Electricity. Write the amount after summing up all three monthly utilities expenditure.
- Mention “Educational Expenses” if the applicant’s children are school going then write the school fees or any expense regarding education.
- Mention “Provisions/Grocery” write applicant’s monthly expenses for home supplies.
- Mention “Miscellaneous Expenses” write applicant’s monthly unforeseen expenses like repairing of any home appliances or items and gifts for occasions in relatives or friends. Etc.
- Mention “Liability Installment” If the applicant has previously took loan for any purpose and some amount paying on monthly basis to clear that loan. Write the amount paying monthly.
- Sum up the “Total Monthly Expenditure”.

Saving/Shortfall

Write amount after: Total Monthly Income minus Total Monthly Expenditure.

5. Qarz-e-Hasna Required

- Mention “Amount” write the amount of Qarz-e-Hasna required.
- Mention “Capacity to pay Monthly Installment” Divide the amount of Qarz-e-Hasna by 12 then write in the blank.
- Mention “Purpose” write purpose for applying Qarz-e-Hasna.

6. Guarantors

- Read the section carefully.
- Fill up the details of two guarantors as per CNIC.

7. Witnesses

- Fill up the details of two witnesses as per CNIC.

8. Undertaking

- Read the undertaking carefully.
- Applicant has to write the date and sign the Form.

- "درخواست گزار کا نام" اور "والد/شوہر کا نام - قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے عین مطابق، درست ہجوں میں درج کریں۔
- قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے عین مطابق درست قومی شناختی کارڈ نمبر، فارم میں درج کریں جس کی بنیاد پر قرض حسنہ منظور و فراہم کیا جائے گا۔
- قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے عین مطابق اپنی درست "تاریخ پیدائش" درج کریں۔
- "جنس" اور "ازدواجی حیثیت" کو منتخب کریں۔
- "حالیہ رہائشی پتہ" درج کریں جہاں درخواست دہندہ فی الوقت مقیم ہے۔
- "حالیہ رہائشی پتہ" کے خانوں میں درست "صوبہ، ڈویژن، ضلع، تحصیل، یونین کونسل، گاؤں" درج کریں۔
- "مستقل رہائشی پتہ" درج کریں جس پر درخواست دہندہ کا خاندان مقیم ہے اگرچہ درخواست گزار اپنے کام/ملازمت کے لیے کسی دیگر شہر میں ہو۔
- اپنے "سیل فون" کا بالکل درست نمبر درج کریں، اگر یہ غیر درست ہو یا استعمال میں نہ ہو، تو قرض حسنہ منظور و فراہم نہیں کیا جاسکے گا جیسا کہ آپ کے درج کردہ سیل نمبر پر تصدیقی کال موصول کی جاسکے گی، نیز قرض حسنہ کی منظوری و فراہمی سے متعلقہ تمام اطلاعات/نوٹسز بھی اسی سیل نمبر پر بذریعہ SMS موصول کی جاسکیں گی۔
- "اسکول جانے والے بچوں کی کل تعداد" درج کریں۔
- درخواست گزار جو زبان بول، پڑھ اور لکھ سکتا ہے، ان زبانوں کو درج کریں۔

"زیر کفالت افراد کے کوائف"

- صرف ان افراد کے کوائف درج کریں جن کا گزارہ، درخواست گزار کی آمدنی پر منحصر ہو۔
- صرف غیر شادی شدہ فرد کا اندراج کریں۔ مطلقہ اور بیوہ ہونے کی صورت میں، اس کا اندراج، ازدواجی حیثیت کے کالم میں درج کریں۔
- بیسر روزگار یا بے روزگار ہونے کی حیثیت کو درج کریں، بیسر روزگار ہونے کی صورت میں زیر کفالت فرد کی "ماہانہ آمدنی" کو درج کریں اور بے روزگار ہونے کی صورت میں، اس کے خلیے کو خالی چھوڑ دیں۔

2. کاروبار کی تفصیلات

- درخواست گزار اگر اپنے موجودہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض حسنہ کے لیے درخواست دے رہا ہے، تو صرف "موجودہ" پر نشان لگائیں یا پھر درخواست گزار ایک نئے کاروبار کے لیے قرض حسنہ کی درخواست دے رہا ہے تو صرف "نیا" پر نشان لگائیں۔
- "کاروبار کی نوعیت" درج کریں کہ درخواست دہندہ کس نوعیت کے کاروبار کے لیے قرض حسنہ کے حصول کی درخواست دے رہا ہے۔
- "تجربہ" درج کریں کہ درخواست دہندہ کب سے اس نوعیت کا کاروبار کر رہا ہے یا ایسی نوعیت کے کاروبار میں کام کرتا رہا ہے۔
- "ووکیٹشل ٹریننگ" کے بارے میں درج کریں کہ درخواست گزار نے اس نوعیت کے کاروبار کے لیے کچھ پڑھ سیکھے ہیں، اگر ایسا ہے تو انسٹی ٹیوٹ/ادارے کا نام درج کریں یا ورنہ اس کو خالی چھوڑ دیں۔
- "ابتدائی سرمایہ (رقم)" درج کریں اگر گزشتہ عرصے میں درخواست گزار نے اپنے کاروبار میں کچھ رقم کی سرمایہ کاری کی ہو، تو سرمایہ کاری شدہ رقم درج کریں۔
- "سرمائے کی رقم کا ذریعہ" درج کریں جس سے رقم کی سرمایہ کاری کی گئی تھی، اگر یہ رقم کسی ادارے یا کمپنی سے بطور قرض حاصل کی گئی تھی، تو اس ادارے کا نام لکھیں اور اگر یہ رقم درخواست گزار کے ذاتی وسائل سے حاصل کردہ ہو، تو "اپنا" لکھیں۔

3. ماہانہ آمدنی

- موجودہ کاروباری کی حیثیت سے درخواست گزار ہونے کی صورت میں "کاروبار سے ذاتی آمدنی" درج کریں، یعنی اس سے حاصل ہونے والی ماہانہ آمدنی لکھیں۔
- "کاروبار کے علاوہ دیگر ذاتی آمدنی" درج کریں اگر درخواست گزار کے پاس آمدنی کا دیگر کوئی ذریعہ ہو تو اس سے حاصل ہونے والی ماہانہ آمدنی لکھیں۔
- "اہل خانہ کی دیگر کل آمدنی" کی رقم درج کریں، "خاندان کے زیر کفالت" کے خلیے میں "ماہانہ آمدنی" کی رقم درج کریں۔
- "کل ماہانہ آمدنی" کا تخمینہ درج کریں

ذمہ داری / بقایا جات

آیا کہ درخواست گزار نے اس سے قبل کسی بھی مقصد کے لیے قرض لیا ہے، اگر ہاں تو قرض کی رقم درج کریں۔

کس سے

ادارے یا کمپنی کا نام درج کریں جس سے قرض لیا گیا تھا، جبکہ اگر درخواست گزار نے اپنے ذاتی وسائل سے رقم لی ہو تو "اپنا" لکھیں۔

4. ماہانہ اخراجات

- "مکان کا کرایہ" درج کریں، اگر درخواست گزار کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا ہے تو قابل ادا کرائے کی رقم لکھیں، اور اگر درخواست گزار مکان کا مالک ہو، تو اسے خلیے کو خالی چھوڑ دیں۔
- درخواست دہندہ کے روزمرہ کے اخراجات جیسا کہ انٹرے، روٹی اور دودھ وغیرہ "روزمرہ اخراجات" کے تحت درج کریں۔ ہومہ روزمرہ اخراجات کا تخمینہ کرنے کے بعد اور پھر اسے 30 سے ضرب دینے کے بعد کل رقم درج کریں۔
- درخواست دہندگان کے بانی، گیس اور بجلی کے اخراجات بطور "یوٹیلیٹیز" درج کریں۔ تینوں ماہانہ یوٹیلیٹی اخراجات کو جمع کرنے کے بعد کل رقم درج کریں۔
- "تعلیمی اخراجات" درج کریں اگر درخواست گزار کے بچے اسکول جاتے ہوں، تو اسکول کی فیس یا تعلیم سے متعلقہ دیگر کوئی بھی کل اخراجات لکھیں۔
- گھر کے "سودا سلف" کے لیے درخواست گزار کے ماہانہ اخراجات لکھیں۔
- "متفرق اخراجات" کا تذکرہ کریں درخواست گزار کے ماہانہ غیر متوقع اخراجات، جیسا کہ گھر کے کسی بھی سامان یا اشیاء کی ضرورت یا مرمت، اور عزیزوں یا دوستوں کے خوشی کے مواقع پر تحائف دینا، وغیرہ
- واجب "قسط کی ادائیگی" کا ذکر کریں اگر درخواست گزار نے اس سے قبل کسی بھی مقصد کے لیے قرض کوئی لیا ہو اور اس قرض کی واپسی کے لیے ماہانہ بنیادوں پر طے شدہ کچھ رقم بطور قسط کی ادائیگی کرتا ہو۔ ماہانہ قسط کی ادائیگی کی رقم درج کریں۔
- "کل ماہانہ اخراجات" کا تخمینہ درج کریں۔

بچت / کمی

حساب بعد کل رقم لکھیں: کل ماہانہ آمدنی منہی ماہانہ اخراجات کل ماہانہ اخراجات۔

5. قرض حسنہ درکار ہے

- رقم درج کریں، مطلوبہ قرض حسنہ کی رقم درج کریں۔
- "ماہانہ قسط ادائیگی کی گنجائش" درج کریں، قرض حسنہ کی کل رقم کو 12 سے تقسیم کریں، پھر خالی خلیے میں رقم درج کریں۔
- قرض حسنہ کی درخواست کرنے کے لیے، قرض لینے کا "مقصد" درج کریں۔

6. ضمانتی

- اس حصہ کو غور سے پڑھیں۔
- قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے مطابق، متعلقہ دو ضمانتیوں کی تفصیلات پُر کریں۔

7. گواہان کی تفصیلات

- قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے مطابق متعلقہ دو گواہان کی تفصیلات پُر کریں۔

8. درخواست گزار کا حلف/اقرارنامہ

- اس اقرارنامہ کو غور سے پڑھیں۔
- درخواست گزار کو لازماً، تاریخ درج کرنا ہوگی اور فارم پر اپنے دستخط کرنا ہوں گے۔

LDC Processing Sheet					
	Date	Name	Status	Comments	Signature
Convenor			Recommended		
			Non-Recommended		
Member			Recommended		
			Non-Recommended		
Member/ Secretary			Recommended		
			Non-Recommended		
ZDC Processing Sheet					
	Date	Name	Status	Comments	Signature
Convenor/ Zonal Head			Recommended		
			Non-Recommended		
Member			Recommended		
			Non-Recommended		
Member/ Secretary			Recommended		
			Non-Recommended		